



سوال

(472) نماز میں ہاتھوں کو کہاں باندھنا چاہیے؟

جواب

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

ذہن میں چند ایک سوال کافی دیر سے کھٹک رہے ہیں براہ کرم شافی جواب سے نواز کر مشکور فرمائیں میں گورنمنٹ کالج گوجرانوالہ میں انگلش کالیج پار ہوں، طلبہ بھی یہ سوال پوچھتے رہتے ہیں۔

۱۔ نماز میں ہاتھ کہاں باندھنے چاہیں؟ عام طور پر مشہور ہے کہ ہاتھ سینے پر باندھنے چاہیں اس کے بارے میں کوئی حدیث ہے۔ کیا ہاتھ سینے کے نیچے اور ناف کے اوپر بھی ہو سکتے ہیں۔ سینہ کی لغت میں تعریف کیا ہے؟ مجھے یاد ہے کہ چند ماہ قبل آپ نے کسی سوال کے جواب میں فرمایا تھا کہ سینہ پہلی پسلی سے لے کر آخری پسلی تک ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں متعدد لغت کا حوالہ مع عبارت دے دیں۔

۲۔ نماز پڑھنے وقت کندھے سے کہنا گھٹنے سے گھٹنا اور ٹخنے سے ٹخنا ملانے کا حکم ہے۔

لیکن عام طور پر پاؤں بالکل سیدھے نہیں ہوتے بلکہ انگلیاں (پاؤں کا سامنے والا حصہ) باہر دائیں طرف نکلی ہوتی ہے اور ایڑھی اور کی طرف مڑی ہوتی ہے مڑک پر آن گست لوگ دیکھ کر پتہ چل جاتا ہے کہ خدا نے اکثریت کی ساخت ایسی بنائی ہے اب مکمل تمام پاؤں نماز میں صرف اسی صورت میں ملایا جاسکتا ہے کہ پاؤں کو کھینچ کر، زور لگا کر سیدھا کیا جائے، جب کہ اس صورت میں ٹانگوں میں کچھاً اور درد ہو سکتا ہے پھر ہر آدمی کے پاؤں کا سائز دوسرے سے مختلف ہوتا ہے اس لیے ٹخنے کیسے مل سکتا ہے؟ یہی الجھن کندھا ملانے کے معاملے میں ہے ہر آدمی کا قد دوسرے سے مختلف ہوتا ہے پانچ فٹ قد والوں حفظ قد والے سے کندھے کیسے ملائے؟ کھینچنا کر بھی کندھے ملانا مشکل ہے کیا چھوٹے قد والے قدوالے سے پنجوں کے بل کھڑا ہو کر کندھا ملانے؟ اور پھر گھٹنے سے گھٹنا اور ٹخنے سے ٹخنا کیسے ملائے؟

جب سارا زور جسم اور توجہ ذہن ان کاموں کی طرف ہو جائے تو قرآن اور نماز کے الفاظ پر غور و فکر کرنے کا موقعہ کہاں ملے گا؟

الجواب بعون الوہاب بشرط صحیح السؤال

و عليکم السلام ورحمة الله وبركاته!

الحمد لله، والصلوة والسلام على رسول الله، أما بعد!

(۱) بحالت نماز ہاتھ سینے پر باندھنے چاہیں۔ چنانچہ "صحیح ابن خزیم" میں حدیث ہے۔

حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کے ساتھ نماز پڑھی، تو آپ ﷺ نے لپٹنے والیں ہاتھ کو باہیں ہاتھ پر رکھ کر سینے پر ہاتھ باندھے اور "مسند"

احمدؓ میں حلب صحابی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں : کہ میں نے رسول ﷺ کو سینے پر ہاتھ کے ہوتے دیکھا۔ نیز ”مراستل المدواود“ میں ہے۔ حضرت طاؤس فرماتے ہیں : کہ رسول ﷺ اپنا دیاں ہاتھ نماز میں پہنچنے پر رکھ کر لپنے سینے پر ہاندھا کرتے تھے۔ اگرچہ یہ حدیث مرسل ہے، لیکن دوسری مستند احادیث سے مل کر قوی ہو گئی ہے۔

علامہ البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں :

وَضَّلَّمَا عَلَى الصَّدَرِ، بُهْوَ الَّذِي ثَبَّتَ فِي الشُّعْثَةِ وَخَلَأَ فِرَاةَ ضَعِيفٌ، أَوْ لَا أَصْلَلُ لَهُ صَفَّةَ الصلوة، ص: ۵

”دونوں ہاتھوں کو سینے پر رکھنا، یہی سنت سے ثابت ہے اور اس کے برخلاف یا تو ضعیف ہے یا بے بنیاد۔“

سینے کی تعریف اہل زبان کے ہاں یوں ہے :

نَادُونَ الْغَنْثَى إِلَى قَنَاءِ الْجُوفِ نَحْوَهُ الْمَجْدِ

”گردان کے نیچے سے لے کر پیٹ کے آغاز تک۔“

(۲) صورت سوال سے ظاہر ہے، کہ سائل کے ہاں یہ بات مسلم ہے، کہ نماز میں موہنڈھے سے موہنڈھا اور قدم سے قدم ملانا چاہتے ہیں، جس طرح کہ صحیح احادیث سے ثابت ہے۔ البتہ ان کو ملانے کی کیفیت میں تردید ہے، کہ یہ کیسے ممکن ہے۔

گزارش ہے کہ جہارے ہاں عام طور پر لوگ انگلکیوں کے اطراف کو ملاتے ہیں۔ اس طرح سے واقعی صحیح کیفیت کا پیدا ہونا مشکل امر ہے، لیکن اگر ابتداء میں ہی اطراف انگلکیوں کے بجائے قدموں کے ملانے سے آغاز کیا جائے، تو مشکل خود بخود حل ہو جاتی ہے۔ اس طرح سے بھوٹے بڑے قدم کا امتیاز بھی غالباً ختم ہو جاتا ہے۔ البتہ بھوٹے بڑے قدکی صورت میں کندھوں کی امتیازی کیفیت باقی رہتی ہے۔ بعض دفعہ پاؤں میں بھی کیفیت ہو سکتی ہے، تو اس کا جواب یہ ہے، کہ حدیث میں جو کچھ بیان ہوا، عام جسمانی ساخت کے اعتبار سے ہے۔ نوادر (نہایت قلیل تعداد) کو یہ حکم شامل نہیں۔ ہاں اپنی نیک نیت کے اجر و ثواب سے، وہ شخص معروف نہیں۔ (ان شاء الله)

مسنون کیفیت کو قائم رکھنے کا جذبہ اگر جانبین سے ہو پھر تو کوئی ایسی ابھن پیدا نہیں ہوتی۔ جس سے نماز میں خلل واقع ہو۔ باعث تشویش وہ صورت ہے۔ جب جانبین سے عملی اتفاق کا مظاہرہ نہ ہو تو ایسی شکل میں مزید ابحاؤ میں نہیں پڑنا چاہتے ہیں۔ تاکہ نماز میں بحالت نماز عمل کثیر سے محفوظ رہ سکے جس کی وجہ سے نماز میں نقص پیدا ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے۔

جن احادیث میں قدم اور کندھے سے کندھا ملانے کا ذکر آتا ہے۔ ان کا مقصد یہ ہے، کہ تمام نمازی صفت میں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کھڑے ہوں اور درمیان میں خالی جگہ نہ بھوٹیں کسی کے قدم کا بھوٹا یا بڑا ہوں، اس مقصد کے حصول میں رکاوٹ نہیں بن سکتا۔ باقی رہی بات قدرتی ساخت کی تو اس سلسلے میں عرض ہے، کہ اگر کسی کے قدموں کا رُخ پچھے زیادہ ہی باہر کی جانب ہو اور انھیں سیدھا کرنا تکلیف کا سبب بنتا ہو، تو یہ شخص کو تو اس حکم سے مستثنی بھی قرار دیا جاسکتا ہے۔ **لَا يَكْفُفُ اللَّهُ لَنَفْتَ إِلَّا وَسَعَهَا** لیکن عام طور پر لوگوں کے قدم تھوڑی سی کوشش اور معمولی سے اہتمام سے سیدھے ہو جاتے ہیں۔ امام مفتی اور منفرد سب ہی کو حکم ہے، کہ ان کے جسم قدموں سمیت قبلہ رُخ ہوں۔ اس حکم کی پابندی سے احتراز کرنے کے لیے خواہ غواہ اور حیلے نہیں تلاشنے چاہتیں۔ (حقیقت یہ ہے کہ یہ قدموں کو سیدھا کرنے کی کوشش دراصل نماز اور زندگی کو سیدھا اور قبلہ رُخ کرنے کی کوشش ہے۔ اس سے نماز میں خلل پڑنے کے بجائے نماز اور زندگی کی اصلاح اور درستی ہوتی ہے۔ (قاری نعیم الحق نعیم)

ھذا عندی والله أعلم بالصواب

فتاویٰ حافظ ثناء اللہ مدفیٰ



جَمِيعَ الْكِتَابِ لِلْأَمَّةِ
الْيَقِينُ بِالْعِلْمِ
مَدْحُوفٌ

كتاب الصلوة: صفحه: 400

محمد فتوی